

954 - عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانے والے کا حکم

سوال

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانے والے کا حکم کیا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

عائشہ اور دوسری امہات المومنین عمومی طور پر صحابہ کرام میں شامل ہیں تو جس نص میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر سب و شتم سے منع کیا گیا ہے اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں ذیل میں ہم چند ایک احادیث پیش کرتے ہیں :

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مٹھی (مد) یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا) صحیح بخاری دیکھیں فتح الباری حدیث نمبر (3379) -

پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ جس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس معاملہ میں طعن کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا ہے تو وہ شخص کا فر ہے اور سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کردہ برات کی تکذیب ہے -

امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے ہشام بن عمار رحمہ اللہ تک بیان کیا ہے کہ ہشام کہتے ہیں میں نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

جس نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سب و شتم کیا اسے کوڑے مارے جائیں گے ، اور جس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طعن اور سب و شتم کی اسے قتل کیا جائے گا -

امام مالک رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارہ میں قتل کیوں کیا جائے گا ؟

انہوں نے جواب دیا ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارہ میں فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مومن ہوتو پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا النور (17) -

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جس نے بھی ان پر بہتان لگایا اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی اور جو قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے وہ قتل کیا جائے گا -

حافظ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ قول سو فیصد صحیح ہے اس لیے کہ یہ مکمل ارتداد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارہ میں قطعی برات کی تکذیب بھی ہے -

ابوبکر ابن عربی کا کہنا ہے کہ :

اس لیے کہ بہتان ترازی کرنے والوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فحاشی کا بہتان لگایا تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے بری کر دیا ، تو اب جو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سب و شتم اور ان پر بہتان لگاتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرے وہ کافر ہے ، امام مالک اور اہل بصیرت کا بھی یہی راہ ہے -

قاضی ابویعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہونے کے بعد جس نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا وہ اتفاقاً کافر ہے ، اور اس حکم پر کئی ایک نے اجماع بھی نقل کیا ہے اور اسی طرح کئی ایک آئمہ نے اس حکم بھی صراحت بھی کی ہے -

ابن ابی موسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہونے کے بعد جس نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا وہ دین اسلام سے خارج ہے اور کسی مسلمان عورت سے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا -

ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو کہ ہر فحش کام سے بری ہیں کے بارہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا سنت ہے ، ان میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں -

اور عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں منافقوں کے بہتان سے بری قرار دیا ہے اور وہ دنیا آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی برات کے بعد ان پر بہتان لگائے اس نے تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا -

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہتان سے برات قرآنی نص کے ساتھ قطعی ہے جو بھی اس میں شک کرے وہ مسلمانوں کے اجماع سے کافراور مرتد ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے ۔

اورحافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

امت کا پراتفاق ہے کہ جو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگے وہ کافر ہے ۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

جميع علماء كرام اس پر مجتمع ہیں کہ جس نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سب و شتم کیا اور اس آیت میں برات کا ذکر ہونے کے باوجود وہ بہتان لگائے تو کافر اور قرآن کا دشمن اور کافر ہے ۔

اور بدرالدین زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں :

قرآن کریم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صریحا برات کے باوجود جو شخص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگائے وہ کافر ہے ۔

علماء کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانے والے کو کافر قرار دینے کی بنیاد کئی ایک دلائل ہیں جن میں چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے :

1 - سورة النور میں نازل شدہ آیات سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات پر صریحا استدلال ، تو اب اللہ تعالیٰ کے بری کر دینے کے بعد جو بھی ان پر تہمت لگاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ۔

2 - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں طعن تشنیع اور بہتان طرازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا بلا شک و شبہ اجماعاً کفر ہے ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگانا بھی اذیت ہے جس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ الباری اور امام مسلم رحمہ اللہ المنعم نے اپنی اپنی صحیح میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث افک نقل کی ہے :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے بارہ میں عذر طلب کر رہے

تھے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے :

اے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو مجھے اس شخص کے بارہ میں کون مجھے معذور جانے گا جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق بہت زیا دہ اذیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے تو اپنی گھر والوں (بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مراد ہیں) کو اچھائی اور بھلائی پر ہی پایا ہے --- الحدیث -

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ (کون ہے جو میرا عذر مانے گا) یعنی میرے ساتھ کون انصاف کرے گا اور جب میں اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں اس لیے کہ اسے نے مجھے میرے گھر والوں کے بارہ میں بہت ہی زیادہ تکلیف اور اذیت دی ہے -

تو اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہتان سے اذیت اور تکلیف محسوس کی -

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمان باری تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم پکے اور سچے مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا النور (17) کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں :

یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہتان کے بارہ میں تم دوبارہ کوئی ایسی بات کرو ، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عزت اور گھر والوں کے بارہ میں اذیت پہنچتی ہے ، اور یہ کام جو بھی کرے وہ کافر ہے -

3 - اور یہ بھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں طعن و تشنیع اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی طعن و تشنیع ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں -

اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی اس لیے بنایا تھا کہ وہ طیب اور پاکباز تھیں ، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں میں سے زیادہ پاکباز تھے ، اور اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاکباز نہیں تھیں تو شرعی طور پر وہ نبی صلی اللہ کی زوجیت کے لائق ہی نہیں تھی -

پھر آخر میں ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ترین شخصیت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں جس طری کہ اس کا ذکر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں بھی ملتا ہے :

عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات السلاسل میں بھیجا وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا :

لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ

عنها) سے ، میں نے کہا کہ مردوں میں سے کون ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والد (ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ، میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کون ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : عمر بن الخطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور بھی کئی آدمی گئے ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (3662) صحیح مسلم حدیث نمبر (2384) ۔

تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت سے بغض رکھے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مبغوض ترین شخص ہو ۔

اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے ۔

دیکھیں کتاب :

عقیدہ اہل السنۃ والجماعۃ فی الصحابۃ الکرام تصنیف : ناصر الشیخ (2 / 871)

اور محمد الوہیبی کی کتاب : اعتقاد اہل السنۃ فی الصحابۃ (ص 58) ۔

واللہ تعالیٰ اعلم .